

## نباتات کے مختلف حصوں کی بناؤٹ اور عمل


### جڑ:

پودے کا وہ حصہ جو رواں دار جڑ سے نکل کر مٹی کے اندر رہتا ہے، اسے جڑ کہتے ہیں۔ یہ روشنی کی مخالف سمت میں (کش ثقل کی جانب) مٹی کے اندر بڑھتی ہے۔ شکل 9.2 پر غور کیجیے اور جڑ کے مختلف حصوں کی نشان دہی کیجیے۔

پودے کی اصل جڑ سے دوسری جڑیں اور ان سے تیسرا شاخ دار جڑیں نکل کر مٹی کے اندر بڑھتی ہیں اور یہ مٹی کے بہت اندر جا کر مٹی کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر پودا اپنی جگہ پائیدار رہتا ہے اور مٹی کے اندر موجود پانی جذب کرتا ہے۔

### جڑ کے مختلف حصے:

جڑ کے سرے میں باریک ٹوپی کی طرح ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ جڑ کو مٹی کے ساتھ گھس کر بر باد ہونے سے بچاتا ہے۔ اسے جڑ کی ٹوپی کہتے ہیں۔ جڑ کی ٹوپی کے پیچھے خلیے کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کے بعد کا بڑھا ہوا حصہ جڑ کی نمو میں مدد کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کی جڑ سے بہت ساری ریشے دار جڑیں نکلتی ہیں۔ پانی جذب کرنے میں ریشے دار جڑیں مدد کرتی ہیں۔



جڑ کی ٹوپی

شاخ جڑ

اصل جڑ

### شکل 9.2

شاخ جڑوں اور ریشے دار جڑوں میں بھی خلیے کی تقسیم ہوتی ہے ہر شاخ جڑ، ریشے دار جڑوں کا حصہ ہوتی ہے۔



جڑ کی ٹوپی


شکل 9.3

عضویے کو زندہ رہنے کے لیے غذا، پانی، ہوا وغیرہ بہت ساری اشیا کی ضرورت پڑتی ہے۔ غذا کی تیاری پانی کا انجداب، تنفس، اخراج اور تولید جیسے عمل عضویے کے جسم میں انجام پاتے ہیں۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے عضویے کے جسم میں مختلف نظام ہوتے ہیں۔ ہر نظام سے عضویہ کا کچھ حصہ جڑا رہتا ہے۔ تمام حصوں کے اعمال سے ہی عضویہ کا جسم زندہ رہتا ہے۔

### 9.1 نباتات کے مختلف حصے

#### آپ کے لیے کام:

آپ اپنے مدرسہ کے باخیچے سے ایک چھوٹا سا غیر ضروری پودا اکھاڑ لائیے۔ اکھاڑتے وقت خیال رکھیے کہ اس کی جڑ کٹ نہ جائے۔ پودے کو غور سے دیکھ کر اس کے مختلف حصوں کی ایک شکل بنائے اور اس کے مختلف حصوں کے نام لکھیے۔



### نقشہ 9.1

پودے کے اعضا کی بناؤٹ اور انکے فعال کے درمیان گہرا رشتہ رہا ہے۔ آئیے اب پودے کے مختلف حصوں کی بناؤٹ اور عمل کے متعلق معلومات حاصل کریں۔

(ii) مٹی میں موجود پانی اور معدنیات کو جذب کر کے پیڑ پودوں کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔

(iii) تبدیلی جڑیں غذا کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ پتوں کو سہارا بھی دیتے ہیں۔

کون سی جڑ غذا محفوظ رکھتی ہے اس کی دو مثالیں بحث کر کے لکھیے۔

## 9.2 نبات کا تنہا:

ایک پودے کا جو حصہ اس کے روئیں دارتے ہے نکل کر مٹی کے اوپر پڑھتا ہے اسے تنا کہا جاتا ہے۔ آئینے باتات کے تنے کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کریں۔

## آپ کے لیے کام: 3

درسہ کے باعینچے میں موجود پیڑ پودوں کو بغور دیکھیے۔ تنے کے مختلف حصوں کے متعلق بحث کیجیے۔ تنے کے جس حصے سے پیتاں نکلتی ہیں اسے گرہ یا گانٹھ کہتے ہیں۔ دو گانٹھوں کی درمیانی جگہ کو بین گرہ کہتے ہیں۔ گرہ کے جس حصے سے پیتاں نکلتی ہیں وہیں پر تنے اور پتیوں کی درمیانی جگہ کو دھری کہتے ہیں۔ اسی دھری میں کلی یا کونپل ہوتی ہے۔ یہ کلی کی دھری ہے۔ کلی کی یہی دھریاں شاخ، تنہ اور پھول میں بدلتی ہیں۔

بانس، وسلیا کرنی، چاکندا اور گنا کے پودے کی شکلیں اپنی کاپی میں بنائیں کران کی بین گرہ دھری اور گرہ کی نشاندہی کیجیے۔ مختلف پیڑوں کی گرہ، بین گرہ اور دھری کے متعلق بحث کیجیے۔

برگد کی جٹایا کیوڑے کی جڑیں حاصل کیجیے۔ اسی طرح بور جھانجی (Pistia) حاصل کر کے اس کی جڑ کی شکل بنائیے اور اس کے مختلف حصوں کو دکھائیے۔

کیا مختلف قسم کے درختوں کی جڑیں ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ جڑوں کی بناؤٹ اور افعال کے لحاظ سے ان کو اصل جڑ، ریشه دار جڑ اور تبدیل شدہ جڑ کہا جاتا ہے۔

اوپر ذکر کی گئیں جڑوں کی درجہ بندی کو بنیاد بنا کر کچھ درختوں کے نام لکھیے اور بحث کیجیے۔



شکل 9.4

کیا شکل 9.4 میں نظر آنے والی جڑ سابقہ شکل میں نظر آنے والی جڑ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ آپ فرق دیکھ رہے ہیں؟ برگد کے پیڑ کی جٹامٹی کے اندر جاتی ہے۔ یہ جٹا میں برگد کے پیڑ کو اٹھائے رکھتی ہیں۔ اسے ستونی جڑ کہتے ہیں۔ کیوڑے کے پودے سے نکلنے والی جڑیں کیوڑے کے پودے کو دھیل کر رکھتی ہیں یہ کیوڑے کی عصائی جڑیں ہیں۔ اس قسم کی جڑ اور کون کون سی باتات میں پائی جاتی ہے بحث کیجیے۔ ان اقسام کی جڑوں کو معاون تبدیلی جڑ کہتے ہیں۔ اسی طرح موی اور گاجر میں اصل جڑ تبدیل ہو کر ذخیرہ جڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

جڑ کا کام:

ہمیں جڑ کے متعلق بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جڑ کیا کام انجام دیتی ہے؟ آپس میں تبادلہ خیال کر کے جڑ کے ذریعہ ہونے والے کاموں کی ایک فہرست تیار کیجیے۔

(i) جڑ درخت کوٹی کے ساتھ جکڑے رکھتی ہے۔



کلی کی دھری      بین گرہ      گرہ

شکل 9.6

یہ اصلاح ہو کر زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ سات پھنی (کلیکٹس) اور ناگ پھنی کے تین بھی اسی درجے کے ہیں۔ گھیا کے پودے کا آنکڑا بھی ایک اصلاحی تنا ہے۔

غور کرنے پر معلوم ہو گا کہ یہ پتے کی ڈھری سے نکلتا ہے۔ کریلا، تورائی، لوکی وغیرہ پودوں میں اسی قسم کے بیل ڈورے (Tendrils) ہوتے ہیں۔ یہ پودوں کو اوپر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔



شکل 9.7

### 9.3 تنا کا کام:

آپ نے پودے کے تنا کو دیکھا ہے۔ کیا آپ بتاسکتے ہیں یہ تنا کیا کام کرتا ہے؟ پیڑ پودوں کے تنا پیڑ پودوں کے مختلف حصوں کو پکڑ کر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سورج کی روشنی حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تنا جڑوں کے ذریعہ جذب شدہ پانی اور معدنیات کو نباتات کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ مٹی کے نیچے موجود پیاز، اول وغیرہ اصلاحی تنا غذا محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔

آپ نے پیڑ پودوں پر پیتاں دیکھی ہوں گی۔ تقریباً تمام نباتات کی چھوٹی یا بڑی پیتاں ہوتی ہیں۔

شکل 9.6

ایک گھیا کا پودا اور ایک امرود کے پیڑ کے تنا کو غور سے دیکھیے۔ آپ اس پودے اور پیڑ کے تنا میں جو فرق دیکھ رہے ہیں تحریر کیجیے۔ گھیا کا تنا جہاں دوسرا کا سہارا لے کر بڑھتا ہے وہیں امرود کا تنا بغیر سہارا لیے بڑھ سکتا ہے۔ بناؤٹ کے اعتبار سے تنوں کی دو فتمیں ہیں۔

- (i) مضبوط تنا: آم، کھل، امرود، بانس، بیگن
  - (ii) کمزور تنا: گھیا، پوئی، کریلا، وغیرہ
- جڑ کی طرح تنا کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ ادرک، آلو، پیاز اور اول وغیرہ ایک ایک اصلاحی تنا ہیں۔

## آپ کے لیے کام: 5

مدار کی ایک پتی توڑ کر اس کی ایک شکل بنائیے اور پتی کے مختلف حصوں کی نشاندہی کیجیے۔



شکل 9.9

### چھوٹی پتی

آم کٹھل، امرود وغیرہ پتیوں کی دھاریاں نوکدار نہیں ہوتیں۔ لیکن مدار کی پتیوں کی دھاریں نوکدار ہوتی ہیں۔ پینتا کی پتی کی دھار بہت زیادہ نوکدار ہوتی ہے۔

اسی طرح مختلف پتیوں کے سرے کو دیکھیے۔ پیپل کی پتیوں کے سرے جہاں نوکدار ہوتے ہیں وہیں کٹھل کی پتیوں کے سرے بالکل نوکدار نہیں ہوتے۔ کئی نسل کی پتیوں کے سرے کم و بیش نوکدار ہوتے ہیں لیکن کچھ کی پتی کا سرا دریکھیے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ اندر گھس گیا ہے۔



شکل 9.10

مختلف نسل کی پتیوں کی دھاری کے درمیان ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے۔ اسی رگ سے ثانوی اور شاشی رگیں نکلتی ہیں۔ دو ثانوی رگوں سے نکلنے والی دو شاشی رگیں ایک دوسرے سے مل کر دھاری کے جسم میں جال کی طرح پھیلی رہتی ہیں۔ اسے جال دار رگوں کی ترتیب کہتے ہیں۔ برگد کی پتیوں میں رگوں کی ترتیب کو دیکھیے۔ لیکن دھان اور کیلے کے پتوں کی رگیں متوازی ہونے کے باوجود ان میں فرق ہوتا ہے۔ پتی کے ذھل کے سرے



دھاری، سطی رگ، ثانوی رگ، ٹلشی رگ، ڈھل

شکل 9.8

پتوں کے وسیع حصے کو دھاری کہا جاتا ہے۔ یہ ڈھل کے ذریعے پیڑیا پودے سے لگی رہتی ہے۔ کچھ نباتات کی پتیوں میں ڈھل نہیں ہوتے۔ ڈھل کے محل وقوع کے لحاظ سے پتوں کی دو قسمیں ہیں۔

- (i) ڈھل دار جیسے آم اور کٹھل کے پیڑی کی پتیاں
  - (ii) غیر ڈھل دار جیسے رنگی پودے کی پتیاں
- کیا آپ پتیوں کی دھار، جسامت اور رگوں کی ترتیب برابر ہوتی ہے؟ کچھ پتیاں حاصل کر کے ان کا موازنہ کیجیے۔ پتی کے ڈھل کے سرے سے ایک یا بہت سی رگیں انکل کر دھاری میں پھیل جاتی ہیں۔ آم اور کٹھل وغیرہ کے پتوں کی دھاریاں ایک ہی جیسی ہیں۔ لیکن سیم، نیم، بجنا وغیرہ پتیوں کی دھاریاں چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہوتی ہیں۔ ان چھوٹے حصوں کو چھوٹی پتی کہتے ہیں۔

## آپ کے لیے کام: 6

آپ بیل، نیم، کرشن چوڑا اور بجنا کے پیڑوں کے پتے دیکھیے کہ ان میں چھوٹی پتیاں کس ترتیب سے ہوتی ہیں۔ ان کی شکلیں اپنی کاپی میں بنائیے۔

ہر چھوٹی پتی میں بھی چھوٹے چھوٹے ڈھل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹی پتیاں پتوں کی طرح نظر آتی ہیں مگر یہ پتیاں نہیں ہوتیں۔ یہ دھاری کی صرف ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی پتیوں والی پتی کو مرکب پتی کہا جاتا ہے۔ لیکن آم، کٹھل، اور پینتا وغیرہ کے پتے کو مفرد پتی کہا جاتا ہے۔

کرشن چوڑا پھول کا ایک تنا ہوتا ہے۔ پتے کے علاوہ پھول کے اور بھی چار حصے ہوتے ہیں۔ بتائیے وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں:  
انکھریاں یا مسندگل، پنکھری، پندرہ اور زردان



کلنجی، گردن، کلنجی، بیضہ خانہ، بیضہ دان، بیضہ مادہ  
پنکھری، انکھری یا مسندگل، زر ریشه  
**شکل 9.13**

ایک کرشن چوڑا پھول کیے اندر بیضوی حلقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مادگیں کو لے کر بناتے ہیں۔ بیضوی حلقہ کو گھیر کر زر ریشه کا حلقة رہتا ہے۔ اس میں ۱۰ ارز ریشه ہوتے ہیں۔ زر ریشه حلقے کے چاروں طرف پنکھریوں کا حلقة گھرا رہتا ہے۔ اس میں قریب ۵ کاسٹے گل یا پنکھری ہوتی ہیں۔ پنکھریاں نگین ہوتی ہیں۔ پنکھریوں سے مسندگل یا انکھریوں کا حلقة جڑا رہتا ہے۔ مسندگل میں ۱۵ انکھریاں ہوتی ہیں۔

پھول جب کلی کی حالت میں رہتا ہے مسندگل کا حلقة باہر نظر آتا ہے۔ دوسرا حلقة پنکھریوں کا حلقة ہے جو کلی کے بڑھنے کے بعد نظر آتا ہے۔ پھول کھلنے کے بعد دوسرے دو حلقات نظر آتے ہیں۔ زر ریشه حلقات کو تیسرا اور قچپے مادہ حلقات کو پچھا حلقات کہا جاتا ہے۔

### 9.5 پھول کے افعال:

پھول کے ہر زر ریشه میں ایک تنا اور تنے کے سرے میں ایک زر گل کی تھیلی ہوتی ہے۔ زر گل کی تھیلی میں زردانے بھرے رہتے ہیں۔ ہر قچپے مادہ کے سرے میں کلنجی، درمیان میں گردن کلنجی اور نیچے بیضہ خانہ رہتا ہے۔ پنچتہ زردانے، پنچتہ کلنجی میں پڑنے پر زیر گی ہوتی ہے۔ بیضہ خانے کے اندر ایک یا بہت سارے بیضوی خلیے یا بیضہ دان ہوتے ہیں۔ پھل کے اندر یہ سب تین میں تبدیل ہوتے ہیں۔

بہت ساری ریگیں نکل کر آگے کی طرف پھیل گئی ہیں۔ یہ ریگیں متوازی حالت میں لگتی ہیں۔ کسی بھی رگ سے ثانوی رگ نکلی نہیں ہے۔ اس طرح کی رگوں کی ترتیب کو متوازی رگوں کی ترتیب کہتے ہیں۔



وسطی رگ

### 9.4 پتیوں کے کام: شکل 9.11

پتی پودے کا خاص حصہ ہوتی ہے۔ پیتاں سورج سے حاصل شدہ تو انائی استعمال کر کے غذا تیار کرتی ہیں۔ یہی غذا بلا واسطہ یا بالواسطہ تمام جاندار دنیا کو فراہم کی جاتی ہے۔ پتیوں میں جو بے شمار چھید ہوتے ہیں انہی کے ذریعہ پودے فضائے آسیجن لے کر کاربن ڈائی اسیانید چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ ان چھیدوں کے ذریعہ نباتات اپنے جسم میں موجود ضرورت سے زیادہ پانی کو بھاپ کی شکل میں باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عمل کو بخارات کا اخراج یا سریان کہتے ہیں۔

**پھول:**

پھول پودے کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھول سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پھولوں کو کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کر کر لکھیے۔

### آپ کے لیے کام: 7

ایک کرشن چوڑا کا پھول لیجیے۔ اس کے مختلف حصوں کو دیکھ کر اس کی ایک شکل بنائیے اور اس کے مختلف حصوں کی نشاندہی کیجیے۔



زردان پنکھریاں، انکھریوں کا حلقة یا مسندگل، کلی، تنا  
**شکل 9.12**

## پھل:

بیضہ خانہ زیرگی کے بعد پھل میں بدل جاتا ہے۔ ہر پھل میں ایک پرت اور ایک سے زیادہ بیج ہوتے ہیں۔ بیج پھل کے ساتھ ناف سوت کے ذریعہ لگا رہتا ہے۔ بیج پھل کے اندر بہ حفاظت بنتا ہے، بڑھتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ بیج سے پھر ایک نیا پودا جنم لیتا ہے۔ بیج اپنی نسل کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے پھول اور پھل پیڑپودوں کے تولیدی اعضا کہلاتے ہیں۔

پنیٹھا، کریلا وغیرہ پودوں کے کچھ پھولوں میں بیچھے مادہ یا مادگیں نہیں ہوتی اور کچھ پھولوں میں زرریش نہیں ہوتے۔ اس لیے انہیں نہ اور مادہ پھول کہتے ہیں۔ ایک پودے میں دونوں قسم کے پھول کھلتے ہیں۔ لیکن اور کئی طرح کی نسل کی نہیں کی زر اور مادہ پیڑپودے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے پروں، کانٹر، پیٹا، تاڑ وغیرہ۔

## آپ نے کیا سیکھا:

☆ پیداوار کے طور پر نباتات جاندار دنیا کو غذا فراہم کرتے ہیں۔

☆ نباتات جڑ کی مدد سے مٹی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے ساتھ پانی اور معدنیاتی نمک جذب کرتے ہیں۔

☆ تنے نباتات کے مختلف حصوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں۔ غذا اور پانی پہنچانے کے کام کے علاوہ پتیوں کو سورج

کی روشنی فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

☆ پتیوں میں نباتات کی غذا بنتی ہے۔

☆ پھول اور پھل نباتات کے تولیدی اعضا ہیں۔

☆ پھل اور پھل کے اندر موجود بیج اپنی نسل کی افرائش میں مدد دیتے ہیں۔



## مشق

- 1- دھان اور کیلے کی پتیوں کے علاوہ دوسرا جن پتیوں میں متوازی رگوں کی ترتیب ہوتی ہے ان میں سے کسی دو کی شکل بنائیے۔
- 2- جڑ کی بناؤٹ اور ان کے کاموں کو شکل کے ذریعہ واضح کیجیے۔
- 3- تنے کی کتنی اقسام ہیں اور اور یہ نباتات کے کیا کیا کام کرتے ہیں تحریر کیجیے۔
- 4- دو مفرد اور دو مرکب پتیوں کے نام لکھیے۔
- 5- جس پودے کی جڑ ریشے دار ہوتی ہے اس کی رگوں کی ترتیب کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ مشاہدہ کر کے لکھیے۔

## گھر میں کرنے کے لیے کام:

مندرجہ ذیل اقسام کی پتیوں کے دنخوا نے حاصل کر کے کاپی میں چپکایے۔

متوازی رگوں کی ترتیب اور جال نمارگوں کی ترتیب والی پتی۔

تنادار پتی اور بے تنادار پتی



مفرد پتی اور مرکب پتی

